

10th Class Home Economics Chapter 7 Art in Everyday Life KPK Boards Online MCQ's

Sr	Questions	Answers Choice
1	غذا کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے	A. دو بقے B. ایک بقے C. سات بقے D. چار بقے
2	بڑے چجز جو ہم کھاتے ہیں، کھلاتی ہے	A. خوارک B. دوپر کا کھانا C. رات کا کھانا D. ناشستہ
3	بڑائے کپڑوں کو نیا بنائے سے بوتی ہے	A. عزت B. بچت C. قدر و قیمت D. ترقی
4	بڑائے کپڑوں کو رو بدل کر کے نیا بنانا کوئی کام نہیں	A. مشکل B. انسان C. بے فائدہ D. بے کار
5	بڑائی سالاہیوں سے بنائے جاسکتے ہیں	A. سوت B. کوت C. جرسی D. اوور کوت
6	سوٹوں کے دوپتوں سے تیار کی جاسکتی ہے	A. بلون B. شرٹ C. شلوار D. قمیص
7	شلوار کے پلاچے تنگ ہو تو چوڑے کیتے جاسکتے ہیں	A. کپڑا ڈال کر B. ننفہ ڈال کر C. پہلے دونوں D. کوئی بھی نہیں
8	سلوار کی لمبائی بڑھاتے کے لیے ڈالا جاسکتا ہے	A. ننفہ B. کپڑا C. ٹیپران D. کوئی بھی نہیں
9	کرتے کی چوڑائی بڑھاتے کے لیے ڈالا جاسکتا ہے:	A. پھولوں کا B. لیس کا C. رین کا D. کلینوں کا
10	اگر قمیص چوڑائی میں تنگ ہے تو گپیر دار فراک تیار ہو سکتا ہے	A. ہم رنگ پیشان لگا کر B. لیس لکا کر C. مختلف انداز میں پیشان ڈال کر D. پہلے دونوں
11	کپڑوں کو فیشن کے مطابق کرنے کے بارے میں کتنی تجاویز ہیں	A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
12	لباس کی سلانی کوئی کام نہیں	A. بے فائدہ B. انسان C. مشکل D. محنت طلب
13	بیماری خوارک میں کتنے امینوٹروں کا موجود ہونا ضروری ہے	A. چیزوں کی ترتیب B. حرکت کی شکل میں C. ساکن شکل میں D. مختلف اشکال سے
14	کون سا وثامن دماغ اور اعصاب کو مضبوط بناتا ہے:	A. وثامن بی B. وثامن اے C. وٹا من ڈی D. وثامن سی
15	غذا مہپا کرتی ہے:	A. صحت و تترستی B. وزن بڑھانا C. قد بڑھانا D. رنگ گورا کرنا

